

دفتر برائے تعلقات عامہ و میڈیا کو آرڈی نیشن  
جامعہ ملیہ اسلامیہ  
نئی دہلی

28-08-2020

پریس ریلیز

**جامعہ ملیہ اسلامیہ اور ایس این یو، جنوبی کوریا کی جانب سے مشترکہ طور پر 'گاندھیائی افکار اور فلسفہ' پر ویبنار کا اہتمام**

کل جامعہ ملیہ اسلامیہ نے گاندھیائی افکار اور فلسفہ کے عنوان سے ایک آن لائن ویبنار کا اہتمام کیا۔ کوریا (آر او کے) اور جامعہ ملیہ اسلامیہ کے مشترکہ تعاون یہ ویبنار سیئول نیشنل یونیورسٹی، جنوبی سے منعقد ہوا تھا۔ اس ویبنار میں ایچ ای امبشن بونگ کل آر او کے سفیر مہمان خصوصی کی حیثیت سے شریک تھے جبکہ پروفیسر نجمہ اختر، وائس چانسلر، جامعہ ملیہ اسلامیہ صدارت کے فرائض انجام دے رہی تھیں۔

پروفیسر جو ڈونگ جون، سیئول نیشنل یونیورسٹی، آر او کے مرکزی اسپیکر تھے۔ انہوں نے ویبنار میں 'کورین اوڈیسی برائے جمہوریہ میں گاندھی کی شخصیت کا ارتقاء' پر پاور پوائنٹ پریزنٹیشن کے ساتھ ایک بہت ہی بصیرت انگیز لیکچر دیا۔

ویبنار میں یونیسکو کے چیئر برائے امن پروفیسر پریانکر اپادھائے بھی موجود تھے۔

اپنے خطاب میں جامعہ ملیہ اسلامیہ کے وائس چانسلر پروفیسر نجمہ اختر نے کہا کہ جامعہ ملیہ اسلامیہ کوریا کے اشتراک سے یونیورسٹی میں کورین زبان کے کورسز چلا رہی ہے اور مستقبل میں یونیورسٹی اس طرح کی مزید پروگرام شروع کرنے پر غور و خوض کر رہی ہے۔

اپنے خطاب کے دوران سفیر شن بونگ کیل نے کہا کہ مہاتما گاندھی ہندوستان کے بابائے قوم ہیں لیکن ان کا تعلق پوری دنیا سے ہے۔ ان کا امن اور عدم تشدد کا پیغام ساری دنیا کے لیے ہے۔

انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہندوستان کی آزادی کی جدوجہد جاپان کی نوآبادیاتی حکمرانی کے خلاف کوریا کی مزاحمت سے ہم آہنگ ہے۔ کورین اخبارات نے ہندوستان کی قومی تحریک کے مختلف پہلوؤں کا احاطہ کیا ہے۔ ہم نے ایک دوسرے کی جد و جہد آزادی سے تحریک حاصل کی۔

پروفیسر مکیش رنجن شعبہ انگریزی اور او ایس ڈی (پلاننگ اینڈ ڈویلپمنٹ)، جامعہ ملیہ اسلامیہ نے ویبنار کو منظم کیا اور اسپیکر اور دیگر پینلسٹس کا متعارف کرایا۔

احمد عظیم  
پی آر-او میڈیا کوآرڈینیٹر

